

Ett Göteborg för alla

Gothenburg for all

غوتبرغ للجميع

Göteborg kaikille

Gothenburg ji bo hemiyan

ناو هر روك

O Gotenburgo savorenge

گوتنبرگ برای همه

Gothenburg waa la wadaleeyahay



Svenska	1
English	2
العَرَبِيَّةُ“	3
Suomi	4
Kurdî (Kurmancî)	5
Kurdî (Sorani)	6
Lovari/Kalderash (Romani)	7
فارسی	8
Af-Soomaali	9

En framtid för alla

Sverige är ett rikt land där alla skulle kunna ha ett jobb som inte sliter ut oss, en trygg inkomst och en välfärd som går att lita på. Alla skulle kunna ha en bostad och rättvisa arbetsvillkor. Men så är det inte. Samhället har resurser, men de fördelas inte rättvist. Det vill vi ändra på.

Vi vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det skulle ge oss mer tid till vänner och familj. Vi vill skapa rättvisa och trygga arbetsvillkor. Det vill vi göra genom att förbjuda bemanningsföretag och hindra alla arbetsköpare från att utnyttja timvikarier.

Vi vill bygga bra och billiga bostäder. För att lösa bostadskrisen vill vi bygga fler bra och billiga hyresrätter.

Använd din röst för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara de rika.

A future for all

Sweden is a wealthy country where everybody should be able to have a job that doesn't wear them out, a secure income and a welfare system they can rely on. Everybody could have a home and fair working conditions. But this is not the case. Our society has the resources, but they are not distributed fairly. We want to change this.

Our goal is to introduce a 6-hour workday with no loss of income. This will give us more time for friends and family. We want to create fair and secure employment terms. We will achieve this by banning temporary staffing agencies and by preventing employers from exploiting hourly temp workers.

We want to build good and inexpensive homes. To solve the housing crisis, we want to build a greater number of good and inexpensive rental homes.

Vote for a future that belongs to us all – not only the rich.

مستقبل يسع الجميع

السويد دولة غنية، يستطيع كل فرد فيها الحصول على عمل لا يستهلك بدنـه، ودخل آمن ونظام رعاية اجتماعية يعتمد عليهـ. ويستطيع كل فرد الحصول على منزل وظروف عمل عادلة، غير أن الأمر ليس كذلكـ، حيث يمتلك مجتمعـنا المواردـ، ولكنه يفتقر إلى العـدالة في التوزيعـ؛ ولذا نـريد تغيير هذه الأحوالـ. يـنطوي هـدفـنا على تقليل ساعات العمل إلى 6 ساعات مع قيمة الدخل ذاتـهاـ.

وهـذا من شأنـنا منـحـنا وقتـاً أكثرـ لنـمضـيه معـ الأـصـدقـاءـ والعـائـلـةـ. نـودـ وضعـ بنـودـ توـظـيفـ عـادـلـةـ وـآمـنـةـ. وـسـنـحـقـقـ ذـلـكـ منـ خـلـالـ حـذـرـ وـكـالـاتـ التـوـظـيفـ المؤـقـتـ وـمـنـعـ استـغـلالـ أـصـحـابـ الـعـلـمـ لـلـعـاـمـلـيـنـ المؤـقـتـيـنـ الـذـيـنـ يـعـمـلـونـ بـنـظـامـ السـاعـاتـ.

نـودـ بـنـاءـ مـنـازـلـ جـيـدةـ وـغـيـرـ مـكـلـفةـ. وـلـحلـ أـزـمـةـ الإـسـكـانـ، نـرـيدـ بـنـاءـ عـدـدـ أـكـبـرـ مـنـ مـنـازـلـ الإـيجـارـ الجـيـدةـ وـغـيـرـ المـكـلـفةـ.

صـوـّـرـواـ مـنـ أـجـلـ مـسـتـقـبـلـ مـنـ أـجـلـنـاـ جـمـيـعـاـ – لاـ يـقـتـصـرـ عـلـىـ الـأـغـنـيـاءـ فـقـطـ.

Tulevaisuus kaikille

Ruotsi on vauras maa, jossa kaikilla tulisi olla työ, joka ei kuluta loppuun, turvattu tulo ja hyvinvoittijärjestelmä, johon voi luottaa. Kaikilla tulisi olla asunto ja oikeudenmukaiset työolot. Mutta näin ei ole.

Yhteiskunnalla on resursseja, mutta niitä ei jaeta oikeudenmukaisesti. Haluamme muuttaa tämän.

Haluamme ottaa käyttöön kuuden tunnin työpäivän ilman palkan heikennyksiä. Näin meillä olisi enemmän aikaa ystäville ja perheelle.

Haluamme luoda oikeudenmukaiset ja turvalliset työolot. Haluamme tehdä tämän kieltämällä henkilöstöyritykset ja estämällä työnantajia käyttämästä hyväkseen tilapäistyöntekijöitä nollatuntisopimuksilla.

Haluamme rakentaa hyviä ja edullisia asuntoja. Asuntokriisin ratkaisemiseksi haluamme rakentaa enemmän hyviä ja edullisia vuokra-asuntoja.

Käytä ääntäsi tulevaisuuden rakentamiseksi – tulevaisuuden, joka kuuluu meille kaikille eikä vain rikkaille.

Pêşeroj ji bo herkesî

Swêd welitekî dewlemend e, ku her kesek divê bikaribe karekî xwe hebe û vî karê xwe jidest nede, dahatiyek ewleh û pergala refahî ku bikarin pala xwe bidinê. Her kesî divê mala xwe û rewşa karkirina bi edlane û dadmendane hebe. Lê niha rewş bi vî awayî nîne. Civaka me xwedî çavkanî ye, lê ew derhat nehatine belavkirin. Em dixwazin vê yekê biguherînin. Armanca me xebata bi qasî 6-saetan di rojê de ye bi kêmbûna dahatê.

Ev yek demek kêrhatî dide me ji bo derbaskirina bi hevalan û malbatê re. Em dixwazin ku şertên kar û şolê bi dadmendî û ewleh bikin. Emê vê yekê bi dest bînin bi qedexekirina ajansên xebatkarên demkî û bi bergirîkirina ji xwedîkaran ku xebatkarên saetî bi kar bînin.

Em dixwazin avahiyêň baş û erzan çêbikin. Ji bo çareserkirina krîza mal û xaniyan, em dixwazin ku hejmareke mezin ji xaniyêň bi kirê çêbikin.

Dengê xwe bide ji bo pêşeroja ku ji me hemiyan re ye – ne bi tenê ji bo dewlemendant.

داهاتوویک بۆ هەمووان

سويد و لاتيكي دوڵەمندە كە هەموو كەس دەيتوانى كاريکى هەبۇوايمەت كە لە داهاتوودا پەكمان پېنەخات، و داهاتيکى دلنيا و گوزھرانىكى خوشى هەبۇوايمەت كە جىگاي متمانە بى. هەموو كەسيك دەيتوانى خانوو و ھەلومەرجى كاريى يەكسانى هەبۇوايمەت. بەلام وەها نىبىه. كۆملەڭاكە سامانى ھېيە بەلام بە شىوازىكى يەكسان دابەش ناكرى. ئىمە دەمانھوي ئەممە بىگورىن.

ئىمە دەمانھوي كە رۆزى كاركىردى شەش كاژىرى بە هەمان مووجەوە كە ھەمەتە بەيىننە ئاراوه. ئەممە دەتوانى كاتى زياترمان بدانى بۆ بەسەربردن لەگەل بەنمەلە و ھاوريدا. ئىمە دەمانھوي كە ھەلومەرجىكى كاركىردى يەكسان و دلنيا بەدييىننەن. دەمانھوي لەريگەمى قەدەغەكىردى ئازانسىكانى كار و لەريگەمى پېشگىرن لە كەلكلەيەرگەرن ھەموو خاونكارەكانھو لەو كارگرانە كە بەكتى، بە گویرەي كاتزىرى مووجەوە دەگەرن ھەلومەرجى كاركىردى يەكسان بەيىننە ئاراوه.

ئىمە دەمانھوي كە خانووى باش و ھەرزان دروست بکەين. بۆ چار ھەركىردى كەمەيى خانووبەرە دەمانھوي كە خانووى زياترى باش و ھەرزان كە ملکى بەكريدىان بىت، دروست بکەين.

دەنگەكمەت بەكار بىنە بۆ دابىنكردى داهاتوویک كە هي ھەموومان بى - نە تەنھا هي دوڵەمندەكان.

Ekh avutnipe (futuro) savorenge

O Švedo ekh barvalo them (phuv) ande savo savoren trubul te avel len o šajpe te len buki savi ni xal lengo sastipe, ekh siguro love-anipe thaj ekh socialno sistema ande savi von ginен pe (si len siguro ande late). Savoren trubul te avel len kher thaj čaćune bukjake kondicionura. Ama kadala naj kadja. Amare societeto si les e resursura, ama von naj ulavde čaćuneste. Ame kamas te pharuvas (keras nevo) kadava. Amari res (cel) si te keras o bukjarno give te avel 6 satura bi te xasavol o love-anipe.

Kadava ka del amen maj but vrjama amalenge thaj familijake. Ame kamas te keras čaćune thaj sekurime bukjake kondicionura. Ame ka resavas kadava via o ačhavipe vaš e cikne vrjamake bukjarnenge agencije thaj via e prevencija e bukidavnengi te eksplotirin bukjarnen, kon keran cikne savatonenge buki.

Ame kamas te keras laćhe thaj bikućne khera. Te resolvis e kheringi kriza, ame kamas te keras ekh maj baro numero laćhe thaj bikućne rentake khera.

Den tumaro voto vaš ekh avututno savo si savorengo – na sade (numa) e barvalengo.

آینده‌ای برای همه

سوئد کشور ثروتمندی است که همه افراد در آن باید بتوانند شغلی داشته باشند که آنها را فرسوده نکند و درآمدی مطمئن و یک سیستم رفاه که بتوانند به آن اتکا کنند. همه می‌توانند خانه و شرایط کاری منصفانه داشته باشند. با این حال وضعیت به این شکل نیست. جامعه ما از منابع برخوردار است، اما این منابع به طور منصفانه تقسیم نمی‌شود. ما می‌خواهیم این وضعیت را تغییر دهیم. هدف ما انجام ^۶ ساعت کار در روز بدون از دست دادن درآمد است.

به این ترتیب زمان بیشتری برای دوستان و خانواده خواهیم داشت. ما می‌خواهیم شرایط اشتغال منصفانه و مطمئنی را ایجاد کنیم. ما با ممنوع کردن سازمان‌های استخدام موقت و جلوگیری از بهره‌برداری کارفرمایها از کارگران موقت ساعتی به این هدف دست خواهیم یافت.

ما می‌خواهیم خانه‌های اجاره‌ای خوب و ارزان قیمت بسازیم. برای حل بحران مسکن، می‌خواهیم تعداد بیشتری خانه اجاره‌ای خوب و ارزان قیمت بسازیم.

به آینده‌ای رأی بدهید که به همه ما تعلق دارد - نه فقط ثروتمندان.

Mustaqbal la wadaleeyahay

Iswiidhan waa wadan qani ah oo qof waliba awoodi karo inuu helo shaqo aan xirtneyn, dakhli caymisan iyo nidaam samafal leh oo ay ku tiirsanaan karaan. Qof kastaa wuxuu heli karaa hooy guri iyo xaalado shaqo oo caddaalad ah. Laakiin tani ma aha xaalada dhabta ah. Bulshadeen waxay leedahay kheyraad, laakiin looma qeybiyo si caddaalad ah. Wuxaan dooneynaa inaan taas bedelno. Hadafkeenu waa inaan soo bandhigo shaqo 6 saacadood ah oo aan sababayn dakhli hoos u dhacaya.

Tani waxay na siineysaa waqtii dheeraad ah oo aan la qaadano asaxaabta iyo qoyska. Wuxaan dooneynaa inaan abuurno shuruudo shaqo oo caddaalad ah. Waxan ku guuleysan doonaa anagoo mamnuucayna shirkadaha bixiya shaqooyinka ku meel gaarka ah iyo waxaan ka hortageynaa shaqobixiyeyaasha ka faa'iideysta shaqaale saacadleyaasha ah.

Wuxaan dooneynaa inaan dhisno guryo wanaagsan oo jaban. Si loo xalliyo dhibaatooyinka guryaha, waxaan dooneynaa inaan dhisno guryo badan oo ah guryaha kirada ah oo jaban.

U codeeya mustaqbal aynu wada leenahay – oo aan taajiriinta kaliya lahayn.

Rösta med Vänsterpartiet

Vote for the Left Party

صوتوا لصالح حزب اليسار

Äänestä Vasemmistopuoluetta

Dengê xwe bide (Partiya Çep) Left Party ê

لەگەل پارتى چەپدا دەنگ بىدە

Den tumaro voto vaś e Bange-rigaki
(Stingaki) Partija

بە جناح چپ رأى بىدەپىد

U codee xisbiga Left Partyeyahay

